

القرآن الكريم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطاں کے شر سے

المنزل- ۵

آیائہا - ۳۴۳ , رُكُوعَاتُهَا - ۱۸

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ - ۱۹

رُكُوعَاتُهَا- ۶

سُورَةُ الْفُرْقَانِ (مَكِّي)

آیائہا- ۷۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلِيكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ

المنزل- ۴  
الْمُنْزَلُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ①

اور ان لوگوں نے کہا جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہ ①  
ہمارے پاس فرشتے کیوں نہ بھیجے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے  
البتہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا ہے اور بہت بڑی سرکشی  
کی ہے ②

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلِيكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ②  
جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی ②  
خوشی نہیں ہو گی اور کہیں گے اڑ کر دی جائے

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا ③  
اور جو عمل انہوں نے کیے تھے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے پھر ③  
انہیں اڑتی ہوئی خاک کر دیں گے

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ④

اس دن بہشتیوں کا ٹھکانا بہتر ہوگا اور دوپہر کی آرام گاہ بھی عمدہ ②۴  
ہوگی

وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ②۵

اور جس دن آسمان بادل سے پھٹ جائے گا اور فرشتے بکثرت اتارے ②۵  
جائیں گے

الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ②۶

اس دن حقیقی حکومت رحمن ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بڑا ②۶  
سخت ہوگا

وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلِيَّتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ②۷

اور اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا کہے گا اے کاش میں ②۷  
بھی رسول کے ساتھ راہ چلتا

يُوِيلَنِي لِيَتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ②۸

ہائے میری شامت کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا ②۸

لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ②۹

اسی نے تو نصیحت کے آنے کے بعد مجھے بہکا دیا اور شیطان تو ②۹  
انسان کو رسوا کرنے والا ہی ہے

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ③۰

اور رسول کہے گا اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو ③۰  
نظر انداز کر رکھا تھا

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا ۝۳۱

اور ہم اسی مجرموں کو ہر ایک نبی کا دشمن بناتے رہے ہیں اور ۳۱  
ہدایت کرنے اور مدد کرنے کے لیے تیرا رب کافی ہے

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً ۚ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ  
فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۝۳۲

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر یکبارگی قرآن نازل نہیں کیا گیا ۳۲  
اسی طرح اتارا گیا تاکہ ہم اس سے تیرے دل کو اطمینان دیں اور ہم نے  
اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سنایا

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝۳۳

اور جو انوکھی بات تیرے سامنے لائیں گے ہم بھی تمہیں اس کا بہت ۳۳  
ٹھیک جواب اور بہت عمدہ حل بتائیں

۱۱ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۗ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝۳۴

جو لوگ مونہوں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالیں جائیں گے یہی ۳۴  
اعبرے درجے والے ہیں اور بہت ہی بڑے گمراہ ہیں

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۝۳۵

اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہم نے اس کے ساتھ اس ۳۵  
کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا

فَقُلْنَا اِذْهَبْآ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ﴿٣٦﴾

پھر ہم نے کہا تم دونو ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہو ں نے ہماری ﴿٣٦﴾ آیتیں جھٹلائی ہیں پھر ہم نے انہیں جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا

وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوْا الرُّسُلَ اَعْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً ۗ وَاَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٣٧﴾

اور نوح کی قوم کو بھی جب انہو ں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ﴿٣٧﴾ انہیں غرق کر دیا اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے

وَعَادًا وَّثَمُوْدًا وَاَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ﴿٣٨﴾

اور عاد اور ثمود اور کنوئیں والوں کو بھی اور بہت سے دور جو ان ﴿٣٨﴾ کے درمیان تھے

وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ ۗ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتِيْرًا ﴿٣٩﴾

اور ہم نے ہر ایک کو مثالیں دے کر سمجھایا تھا اور سب کو ہم نے ﴿٣٩﴾ ہلاک کر دیا

وَلَقَدْ اَتَوْا عَلٰى الْقَرْيَةِ الَّتِيْ اَمْطَرْتُمْ مَطَرَ السَّوْءِ ۗ اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرُوْنَهَا ۗ بَلْ كَانُوْا

لَا يَرْجُوْنَ نَشُوْرًا ﴿٤٠﴾

اور یہ اس بستی پر بھی گزرے ہیں جس پر بری طرح پتھر برسائے ﴿٤٠﴾ گئے سو کیا یہ لوگ اسے دیکھتے نہیں رہتے بلکہ یہ لوگ مر کر زندہ ہونے کی امید ہی نہیں رکھتے

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۗ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۙ ﴿٤١﴾

اور جب یہ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تو بس تم سے مذاق کرنے لگتے ﴿٤١﴾  
ہیں کیا یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا

إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ الْهَيْتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۗ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِين يَرَوْنَ  
الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۙ ﴿٤٢﴾

اس نے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا ہی دیا ہوتا اگر ہم ان پر قائم ﴿٤٢﴾  
نہ رہتے اور انہیں جلدی معلوم ہو جائے گا جب عذاب دیکھیں گے کہ  
کون شخص گمراہ تھا

أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ۗ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۙ ﴿٤٣﴾

کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی خواہشات نفسانی ﴿٤٣﴾  
کو بنا رکھا ہے پھر کیا تو اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۗ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ  
سَبِيلًا ۙ ﴿٤٤﴾

یا تو خیال کرتا ہے کہ اکثر ان میں سے سنتے یا سمجھتے ہیں یہ تو ﴿٤٤﴾  
محض چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ  
عَلَيْهِ دَلِيلًا ۙ ﴿٤٥﴾

کیا تو نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے سایہ کو کیسے ﴿٤٥﴾  
پھیلایا ہے اور اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا رکھتا پھر ہم نے سورج کو اس

کا سبب بنا دیا ہے

ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾

پھر ہم اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹتے ہیں ﴿٤٦﴾

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾

اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو اوڑھنا اور نیند کو راحت ﴿٤٧﴾ بنا دیا اور دن چلنے پھرنے کے لیے بنایا

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾

اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری لانے والی ﴿٤٨﴾ ہوائیں چلاتا ہے اور ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل فرمایا

لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾

تاکہ ہم اس سے مرے ہوئے شہر کو زندہ کریں اور اسے اپنی پیدا کی ﴿٤٩﴾ ہوئی چیزوں، چارپایوں اور بہت سے آدمیوں کو پلائیں

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا ۚ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٠﴾

اور ہم نے اسے لوگوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں ﴿٥٠﴾ پس بہت سے آدمی ناشکری کیے بغیر نہ رہے

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۚ ﴿٥١﴾

اور اگر ہم چاہتے تو ہر گاؤں میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے ﴿٥١﴾

فَلَا تُطِيعُ الْكُفْرَيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾

پس کافروں کا کہا نہ مان اس کے ساتھ بڑے زور سے ان کا مقابلہ کر ﴿٥٢﴾

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٥٣﴾

اور وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو آپس میں ملا دیا یہ میٹھا ﴿٥٣﴾  
خوشگوار ہے اور یہ کھاری کڑوا ہے اور ان دونوں میں ایک پردہ اور  
مستحکم آڑ بنا دی

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

اور وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا پھر اس کے لیے ﴿٥٤﴾  
رشتہ نسب اور دامادی قائم کیا اور تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾

اور وہ اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہیں جو انہیں نہ نفع دے سکتے ﴿٥٥﴾  
ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کافر اپنے رب کی طرف پیٹھ  
پھیرنے والا ہے

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٦﴾

اور ہم نے تمہیں محض خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر ﴿٥٦﴾  
بھیجا ہے

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝<sup>57</sup>  
 کہہ دو میں اس پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا مگر جو شخص ۝<sup>57</sup>  
 اپنے رب کی طرف راستہ معلوم کرنا چاہے

وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۗ وَكَفَىٰ بِهِ بُدْءُ عِبَادِهِ خَيْرًا ۗ<sup>58</sup>

اور تم اس زندہ خدا پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہ مرے گا اور اس کی ۝<sup>58</sup>  
 تسبیح اور حمد کرتے رہو اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی  
 خبردار ہے

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ  
 الرَّحْمَنُ فَسَأَلْ بِهِ خَيْرًا ۝<sup>59</sup>

جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے چھ دن میں بنایا پھر ۝<sup>59</sup>  
 عرش پر قائم ہوا وہ رحمن ہے پس اس کی شان کسی خبردار سے  
 پوچھو

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا  
 السجدة ۳ ع ۝<sup>60</sup> وَزَادَهُمْ نُفُورًا

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمن کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں ۝<sup>60</sup>  
 رحمن کیا ہے کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تو کہہ دے اور اس  
 سے انہیں اور زیادہ نفرت ہوتی ہے

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۝<sup>61</sup>



بڑا برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں ستارے بنائے اور اس میں ⑥۱  
چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ⑥۲  
اور وہی ہے جس نے رات اور دن یکے بعد دیگرے آنے والے بنائے ⑥۲  
یہ اس کے لیے ہے جو سمجھنا چاہے یا شکر کرنا چاہے

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا  
سَلَامًا ⑥۳

اور رحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں اور جب ⑥۳  
ان سے بے سمجھ لوگ بات کریں تو کہتے ہیں سلام ہے

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ⑥۴

اور وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے سجدہ میں اور کھڑے ہو کر ⑥۴  
رات گزارتے ہیں

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۗ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ⑥۵  
اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کا عذاب دور ⑥۵  
کر دے بے شک اس کا عذاب پوری تباہی ہے

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ⑥۶

بے شک وہ برا ٹھکانا اور بڑی قیام گاہ ہے ⑥۶

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ⑥۷

اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ 67  
تنگی کرتے ہیں اور ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا  
ہے

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ  
وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ 68

اور وہ جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور اس شخص 68  
کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے اور زنا نہیں  
کرتے اور جس شخص نے یہ کیا وہ گناہ میں جا پڑا

يُضَعَّفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۗ 69

قیامت کے دن اسے دگنا عذاب ہو گا اس میں ذلیل ہو کر پڑا رہے گا 69

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۗ 70

مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کیے سو انہیں اللہ 70  
برائیوں کی جگہ بھلائیاں بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۗ 71

اور جس نے توبہ کی اور نیک کام کیے تو وہ اللہ کی طرف رجوع 71  
کرتا ہے

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۗ 72

اور جو بے ہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے اور جب بیہودہ باتوں کے ⑦۲  
پاس سے گزریں تو شریفانہ طور سے گزرتے ہیں

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُؤْا عَلَيْهَا ضُمًّا وَعُمْيَانًا ⑦۳

اور وہ لوگ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں سے سمجھایا جاتا ہے تو ⑦۳  
ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ  
إِمَامًا ⑦۴

اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی ⑦۴  
طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا  
بنادے

أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ⑦۵

یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلہ میں جنت کے بالا خانے ⑦۵  
دیے جائیں گے اور ان کا وہاں دعا اور سلام سے استقبال کیا جائے گا

خَالِدِينَ فِيهَا حَسَنَاتٍ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ⑦۶

اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ٹھہرنے اور رہنے کی خوب جگہ ⑦۶  
ہے

قُلْ مَا يَعْجَبُكُمْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ⑦۷

کہہ دو میرا رب تمہاری پروا نہیں کرتا اگر تم اسے نہ پکارو سو تم ⑦۷  
عجیب توچکے ہو پھر اب تو اس کا وبال پڑ کر رہے گا

المنزل ۱ طسّم

۱ طسّم

تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ②

یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں ②

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ③

شاید تو اپنی جان ہلاک کرنے والا ہے اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لاتے ③

إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ④

اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایسی نشانی نازل کریں کہ اس کے ④  
آگے ان کی گردنیں جھک جائیں

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ⑤

اور ان کے پاس رحمن کی طرف سے کوئی نئی بات نصیحت کی ⑤  
ایسی نہیں آئی کہ وہ اس سے منہ نہ موڑ لیتے ہوں

فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ⑥

سو یہ جھٹلاتو چکے اب ان کے پاس اس چیز کی حقیقت آئے گی جس ⑥  
پر ٹھٹھا کیا کرتے تھے

أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ⑦  
کیا وہ زمین کو نہیں دیکھتے ہم نے اس میں ہر ایک قسم کی کتنی ⑦  
عمدہ چیزیں اگائی ہیں

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ⑧ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ⑧  
البتہ اس میں بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے ⑧  
نہیں

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑨  
ع اور بے شک تیرا رب زبردست رحم کرنے والا ہے ⑨  
وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑩  
اور جب تیرے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ اس ظالم قوم کے پاس جا ⑩

قَوْمَ فِرْعَوْنَ ⑪ أَلَا يَتَّقُونَ ⑪  
فرعون کی قوم کے پاس کیا وہ ڈرتے نہیں ⑪  
قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ⑫  
عرض کی اے میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جھٹلا دیں ⑫

وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَرُونَ ⑬  
اور میرا سینہ تنگ ہو جائے اور میری زبان نہ چلے پس ہارون کو ⑬  
پیغام دے

وَلَهُمْ عَلَىٰ ذُنُوبِهِمْ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ⑭

اور میرے ذمہ ان کا ایک گناہ بھی ہے سو میں ڈرتا ہوں کہ مجھے ⑭  
مار نہ ڈالیں

قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِأَيَّتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ⑮

فرمایا ہر گز نہیں تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ ہم تمہارے ساتھ ⑮  
سننے والے ہیں

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑯

سو فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم پروردگار عالم کا پیغام لے کر ⑯  
آئے ہیں

أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ⑰

یہ کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے ⑰

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ⑱

کہا کیا ہم نے تمہیں بچپن میں پرورش نہیں کیا اور تو نے ہم میں اپنی ⑱  
عمر کے کئی سال گزارے

وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ⑲

اور تو اپنا وہ کرتوت کر گیا جو کر گیا اور تو ناشکروں میں سے ہے ⑲

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ⑳

کہا جب میں نے وہ کام کیا تھا تو میں بے خبر تھا ②۰

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ②۱  
پھر میں تم سے تمہارے ڈر کے مارے بھاگ گیا تب مجھے میرے ②۱  
رب نے دانائی عطا کی اور مجھے رسول بنایا

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ②۲

اور یہ احسان جو تو مجھ پر رکھتا ہے اسی لیے تو نے بنی اسرائیل ②۲  
کو غلام بنا رکھا ہے

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ②۳

فرعون نے کہا رب العالمین کیا چیز ہے ②۳

قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّكُمْ مُّؤْتِنِينَ ②۴

فرمایا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا ②۴  
پروردگار ہے اگر تمہیں یقین آئے

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ②۵

اپنے گرد والوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو ②۵

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ ②۶

فرمایا تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے ②۶

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ②۷

کہا ہے شک تمہارا رسول جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے ضرور ②۷  
دیوانہ ہے

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ②۸ إِنَّكُمْ تَعْقِلُونَ ②۸

فرمایا مشرق مغرب اور جو ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے ②۸  
اگر تم عقل رکھتے ہو

قَالَ لَئِن آتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ②۹

کہا اگر تو نے میرے سوا اور کوئی معبود بنایا تو تمہیں قید میں ڈال ②۹  
دوں گا

قَالَ أَوْلَوْ جُنَّتْ بِشْيءٍ مُّبِينٍ ③۰

فرمایا اگرچہ میں تیرے پاس ایک روشن چیز لے آؤں ③۰

قَالَ فَاتِ بِهِ إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ③۱

کہا اگر تو سچا ہے تو وہ چیز لا ③۱

فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ③۲

پھر اس نے اپنا عصا ڈال دیا سو اسی وقت وہ صریح اژدھا ہو گیا ③۲

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ ③۳

اور اپنا ہاتھ نکالا سو اسی وقت وہ دیکھنے والوں کو چمکتا ہوا دکھائی ③۳

ع ۶ دیا

قَالَ لِلْمَلَآئِكَةِ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ③۴



اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ بے شک یہ بڑا ماہر جادوگر ہے ﴿۳۴﴾

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ ط ق فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿۳۵﴾

چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے دیس سے اپنے جادو کے زور سے نکال دے پھر تم کیا رائے دیتے ہو ﴿۳۵﴾

قَالُوا أَرْجَاهُ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿۳۶﴾

کہا اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں چیڑا سیوں کو ﴿۳۶﴾  
بھیج دیجیئے

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَابٍ عَلِيمٍ ﴿۳۷﴾

کہ تیرے پاس بڑے ماہر جادوگروں کو لے آئیں ﴿۳۷﴾

فَجَمَعَ السَّحَرَةَ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿۳۸﴾

پھر سب جادوگر ایک مقرر دن پر جمع کیے گئے ﴿۳۸﴾

وَوَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُّجْتَمِعُونَ ﴿۳۹﴾

اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم بھی اکھٹے ہوتے ہو ﴿۳۹﴾

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿۴۰﴾

تاکہ اگر جادوگر غالب آجائیں تو ہم انہی کی راہ پر رہیں ﴿۴۰﴾

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِبْنِنَا لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿۴۱﴾

پھر جب جادوگر آئے تو فرعون سے کہا اگر ہم غالب آگئے تو کیا ④۱  
ہمیں کوئی بڑا انعام ملے گا

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ④۲

کہا ہاں اور بیشک تم اس وقت مقربوں میں داخل ہو جاؤ گے ④۲

قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ④۳

موسیٰ نے ان سے کہا ڈالو جو تم ڈالتے ہو ④۳

فَالْقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ④۴

پھر انہوں نے اپنی رسیاں اور لاثھیاں ڈال دیں اور کہا فرعون کے ④۴  
اقبال سے ہماری فتح ہے

فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ④۵

پھر موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا پھر وہ فوراً ہی نکلنے لگا جو انہوں نے ④۵  
جھوٹ بنایا تھا

فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجْدِينَ ④۶

پھر جادوگر سجدے میں گر پڑے ④۶

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ④۷

کہا ہم رب العالمین پر ایمان لائے ④۷

رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ④۸

جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے ④۸

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذِنَ لَكُمْ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمْ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ لَا تَقْطَعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَا صَلِّبْتُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝۴۹

کہا کیا تم میری اجازت سے پہلے ہی ایمان لے آئے بے شک وہ ۴۹  
تمہارا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے سو تمہیں ابھی معلوم  
ہو جائے گا البتہ میں تمہارا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا  
پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا

قَالُوْا لَا ضَيْرَۙ اِنَّا اِلٰی رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ۝۵۰

کہا کچھ حرج نہیں ہے شک ہم اپنے رب کے پاس پہنچنے والا ہوں ۵۰  
گے

اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيْئَاتِنَا اَنْ كُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝۵۱ ط

ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اس ۵۱  
لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں

وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰی مُوسٰی اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْۙ اِنَّكُمْ مُّتَّبِعُوْنَ ۝۵۲

اور ہم نے موسیٰ کو حکم بھیجا کہ میرے بندوں کو رات کو لے نکل ۵۲  
البتہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا

فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حٰشِرِيْنَ ۝۵۳ ج

پھر فرعون نے شہروں میں چپڑاسی بھیجے ۵۳

اِنَّ هٰؤُلَاءِ لَشُرُومَةٌ قَلِيْلُوْنَ ۝۵۴ ل

کہ یہ ایک تھوڑی سی جماعت ہے ۵۴

وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴿٥٥﴾

اور انہوں نے ہمیں بہت غصہ دلایا ہے ﴿٥٥﴾

وَإِنَّا لَجَمِيعٌ خَدِرُونَ ﴿٥٦﴾

اور بے شک ہم سب ہتھیار بند ہیں ﴿٥٦﴾

فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٧﴾

پھر ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکال باہر کیا ﴿٥٧﴾

وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾

اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے ﴿٥٨﴾

كَذَلِكَ وَأَوْثَقْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾

اسی طرح ہوا اور ہم نے ان چیزوں کا بنی اسرائیل کو وارث بنایا ﴿٥٩﴾

فَأَتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾

پھر سورج نکلنے کے وقت ان کے پیچھے پڑے ﴿٦٠﴾

فَلَمَّا تَرَأَتْهُ الْجَمْعُ قَالَتْ لِمُوسَى إِنَّهُ لَمُدْرَكُونَ ﴿٦١﴾

پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ﴿٦١﴾  
ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾

کہا ہرگز نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے راہ بتائے گا ﴿۶۲﴾

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿۶۳﴾

پھر ہم نے موسیٰ کو حکم بھیجا کہ اپنی لاٹھی کو دریا پر مار پھر پھٹ گیا پھر ہر ٹکڑا بڑے ٹیلے کی طرح ہو گیا

وَأَزَلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ ﴿۶۴﴾

اور ہم نے اس جگہ دوسروں کو پہنچا دیا ﴿۶۴﴾

وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿۶۵﴾

اور ہم نے موسیٰ کی اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو نجات دی ﴿۶۵﴾

ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿۶۶﴾

پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا ﴿۶۶﴾

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۶۷﴾

البتہ اس میں بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۶۸﴾

اور بے شک تیرا رب زبردست رحم کرنے والا ہے ﴿۶۸﴾

وَآتَلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴿۶۹﴾

اور انہیں ابراہیم کی خبر سنا دے ﴿۶۹﴾

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾

جب اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کو پوجتے ہو ﴿٧٠﴾

قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُّ لَهَا عُكْفِينَ ﴿٧١﴾

کہنے لگے ہم بتوں کو پوجتے ہیں پھر انہی کے گرد رہا کرتے ہیں ﴿٧١﴾

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمُ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾

کہا کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو ﴿٧٢﴾

أَوْ يَنْفَعُونَكُمُ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾

یا تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں ﴿٧٣﴾

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾

کہنے لگے بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے پایا ہے ﴿٧٤﴾

قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾

کہا کیا تمہیں خبر ہے جنہیں تم پوجتے ہو ﴿٧٥﴾

أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَامُونَ ﴿٧٦﴾

تم اور تمہارے پہلے باپ دادا جنہیں پوجتے تھے ﴿٧٦﴾

فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيَ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾

سو وہ سوائے رب العالمین کے میرے دشمن ہیں ﴿٧٧﴾

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ<sup>ل</sup> ⑦⑧

جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے راہ دکھاتا ہے ⑦⑧

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ<sup>ل</sup> ⑦⑨

اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے ⑦⑨

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ<sup>صلا</sup> ⑧⑩

اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے ⑧⑩

وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ<sup>ل</sup> ⑧①

اور وہ جو مجھے مارے گا پھر زندہ کرے گا ⑧①

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ<sup>ط</sup> ⑧②

اور وہ جو مجھے امید ہے کہ میرے گناہ قیامت کے دن مجھے بخش دے گا ⑧②

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ<sup>ل</sup> ⑧③

اے میرے رب مجھے کمال علم عطا فرما اور مجھے نیکوں کے ساتھ شامل کر ⑧③

وَأَجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ<sup>ل</sup> ⑧④

اور آئندہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ ⑧④

وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ<sup>ل</sup> ⑧⑤

اور مجھے نعمت کے باغ کے وارثوں میں کر دے ⑧⑤

وَاعْفُرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ۝<sup>86</sup>

اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے تھا ۝<sup>86</sup>

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝<sup>87</sup>

اور مجھے ذلیل نہ کر جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے ۝<sup>87</sup>

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بُنُونَ ۝<sup>88</sup>

جس دن مال اور اولاد نفع نہیں دے گی ۝<sup>88</sup>

إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝<sup>89</sup>

مگر جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا ۝<sup>89</sup>

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝<sup>90</sup>

اور پرہیز گاروں کے لیے جنت قریب لائی جائے گی ۝<sup>90</sup>

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَوَّينَ ۝<sup>91</sup>

اور دوزخ سرکشوں کے لیے ظاہر کی جائے گی ۝<sup>91</sup>

وَقِيلَ لَهُمْ أَيُّنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۝<sup>92</sup>

اور انہیں کہا جائے گا کہاں ہیں جنہیں تم پوجتے تھے ۝<sup>92</sup>

مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ۝<sup>93</sup>

اللہ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا بدلہ لے سکتے ہیں ۝<sup>93</sup>



فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوِنُ ۗ ﴿٩٤﴾

پھر وہ اور سب گمراہ اس میں اوندھے ڈال دیے جائیں گے ﴿٩٤﴾

وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ۗ ﴿٩٥﴾

اور شیطان کے سارے لشکروں کو بھی ﴿٩٥﴾

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۗ ﴿٩٦﴾

اور وہ وہاں آپس میں جھگڑتے ہوئے کہیں گے ﴿٩٦﴾

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ۗ ﴿٩٧﴾

اللہ کی قسم بیشک ہم صریح گمراہی میں تھے ﴿٩٧﴾

اِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٨﴾

جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر کیا کرتے تھے ﴿٩٨﴾

وَمَا اَضَلَّنَا اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٩٩﴾

اور ہمیں ان بدکاروں کے سوا کسی نے گمراہ نہیں کیا ﴿٩٩﴾

فَمَا لَنَا مِنْ شٰفِعِيْنَ ۗ ﴿١٠٠﴾

پھر کوئی ہماری سفارش کرنے والا نہیں ﴿١٠٠﴾

وَلَا صٰدِقٍ حَمِيْمٍ ﴿١٠١﴾

اور نہ کوئی مخلص دوست ہے ﴿١٠١﴾

فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٢﴾

پھر اگر ہمیں دوبارہ جانا ملے تو ہم ایمان والوں میں شامل ہوں ﴿۱۰۲﴾

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۱۰۳﴾

البتہ اس میں بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے ﴿۱۰۳﴾  
نہیں

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۰۴﴾

۸ اور بے شک تیرا رب زبردست رحم کرنے والا ہے ﴿۱۰۴﴾

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۰۵﴾

نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا ﴿۱۰۵﴾

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۰۶﴾

جب ان کے بھائی نوح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ﴿۱۰۶﴾

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۰۷﴾

میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں ﴿۱۰۷﴾

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ ﴿۱۰۸﴾

پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو ﴿۱۰۸﴾

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۰۹﴾

اور میں تم سے اس پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا میری مزدوری تو ﴿۱۰۹﴾  
بس رب العالمین کے ذمہ ہے

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا<sup>ط</sup> ۱۱۰

سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو ۱۱۰

قَالُوا أَنْتُمْ مِنْ لَدُنْكَ وَأَتَّبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ<sup>ط</sup> ۱۱۱

انہوں نے کہا کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں حالانکہ تیرے تابع تو کمینے ۱۱۱  
لوگ ہوئے ہیں

قَالَ وَمَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ<sup>ج</sup> ۱۱۲

کہا اور مجھے کیا خبر کہ وہ کیا کرتے تھے ۱۱۲

إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ<sup>ج</sup> ۱۱۳

ان کا حساب تو میرے رب ہی کے ذمہ ہے کاش کہ تم سمجھتے ۱۱۳

وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ<sup>ج</sup> ۱۱۴

اور میں ایمان والوں کو دور کرنے والا نہیں ہوں ۱۱۴

إِنِّي أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ<sup>ط</sup> ۱۱۵

میں تو بس کھول کر ڈرانے والا ہوں ۱۱۵

قَالُوا لَيْنَ لِمُ تَنْتَهٰهُ يٰنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ<sup>ط</sup> ۱۱۶

کہنے لگے اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو ضرور سنگسار کیا جائے گا ۱۱۶

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ<sup>ط</sup> ۱۱۷

کہا اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے ۱۱۷

فَأَنْتَحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِيًّا وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾

پس تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ ہی کر دے اور مجھے اور ﴿١١٨﴾  
جو میرے ساتھ ایمان والے ہیں نجات دے

فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾

پھر ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ بھری کشتی میں تھے بچا لیا ﴿١١٩﴾

ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾

پھر ہم نے اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا ﴿١٢٠﴾

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾

البتہ اس میں بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے ﴿١٢١﴾  
نہیں

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾

وہ اور بے شک تیرا رب زبردست رحم کرنے والا ہے ﴿١٢٢﴾

كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾

قوم عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا ﴿١٢٣﴾

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾

جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے ﴿١٢٤﴾

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾

البتہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں ﴿١٢٥﴾

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا عِج

پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو ﴿١٢٦﴾

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾

اور میں تم سے اس پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا میری مزدوری تو ﴿١٢٧﴾  
بس رب العالمین کے ذمہ ہے

اتَّبِعُونِ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾

کیا تم ہر اونچی زمین پر کھیلنے کے لیے ایک نشان بناتے ہو ﴿١٢٨﴾

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾

اور بڑے بڑے محل بناتے ہو شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے ﴿١٢٩﴾

وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾

اور جب ہاتھ ڈالتے ہو تو بڑی سختی سے پکڑتے ہو ﴿١٣٠﴾

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا عِج

پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو ﴿١٣١﴾

وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾

اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی ہے جنہیں ﴿١٣٢﴾  
تم بھی جانتے ہو

أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَيْنِينَ<sup>ع</sup> ۱۳۳

چارپایوں اور اولاد سے ۱۳۳

وَجَنَّتِ وَعُيُونٍ<sup>ع</sup> ۱۳۴

اور باغوں اور چشموں سے تمہیں مدد دی ۱۳۴

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ<sup>ط</sup> ۱۳۵

میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں ۱۳۵

قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ<sup>ل</sup> ۱۳۶

کہنے لگے تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے سب برابر ہے ۱۳۶

إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ<sup>ل</sup> ۱۳۷

یہ تو بس پہلے لوگوں کی ایک عادت ہے ۱۳۷

وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ<sup>ع</sup> ۱۳۸

اور ہمیں عذاب نہیں ہوگا ۱۳۸

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً<sup>ط</sup> وَمَا كَانَ أَكْثَرَهُمْ مُّؤْمِنِينَ<sup>ع</sup> ۱۳۹

پھر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا تب ہم نے انہیں ہلاک کر دیا البتہ ۱۳۹

اس میں بڑی نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ<sup>ع</sup> ۱۴۰

۱۰. اور بے شک تیرا رب زبردست رحم کرنے والا ہے ﴿۱۴۰﴾

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۴۱﴾

قوم ثمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا ﴿۱۴۱﴾

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۴۲﴾

جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ﴿۱۴۲﴾

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۴۳﴾

میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں ﴿۱۴۳﴾

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۱۴۴﴾

پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو ﴿۱۴۴﴾

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۴۵﴾

اور میں تم سے اسپر کوئی مزدوری نہیں مانگتا میری مزدوری تو ﴿۱۴۵﴾  
بس رب العالمین کے ذمہ ہے

أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هُمْنَا أَمِينٌ ﴿۱۴۶﴾

﴿۱۴۶﴾ کیا تمہیں ان چیزوں میں یہاں بے فکری سے رہنے دیا جائے گا

فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿۱۴۷﴾

﴿۱۴۷﴾ یعنی باغوں اور چشموں میں

وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿۱۴۸﴾

اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا خوشہ ملائم ہے ﴿١٤٨﴾

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهَيْنَ ﴿١٤٩﴾

اور رتم پہاڑوں کو تراش کر تکلف کے گھر بناتے ہو ﴿١٤٩﴾

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٥٠﴾

پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو ﴿١٥٠﴾

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾

اور ان حد سے نکلنے والوں کا کہا مت مانو ﴿١٥١﴾

الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾

جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے ﴿١٥٢﴾

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾

کہنے لگے تم پر تو کسی نے جادو کیا ہے ﴿١٥٣﴾

مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۗ فَأْتِ بَآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٤﴾

تو بھی ہم جیسا ایک آدمی ہے سو کوئی نشانی لے آ اگر تو سچا ہے ﴿١٥٤﴾

قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ ۗ لَهَا شَرْبٌ وَلَكُمْ شَرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾

کہا یہ اونٹنی ہے اسکے پینے کا ایک دن ہے اور ایک دن معین ﴿١٥٥﴾

تمہارے پینے کے لیے ہے

وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٥٦﴾



اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں بڑے دن کا عذاب آ  
پکڑے گا

فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَدِيمِينَ<sup>ل</sup> (157)

سو انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے پھر پشیمان ہوئے (157)

فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً<sup>ط</sup> وَمَا كَانَ أَكْثَرَهُمْ مُّؤْمِنِينَ (158)

پھر انہیں عذاب نے آ پکڑا البتہ اس میں بڑی نشانی ہے اور ان میں  
سے اکثر ایمان لانے والے نہیں

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ<sup>ع</sup> (159)

اور بے شک تیرا رب زبردست رحم کرنے والا ہے (159)

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ<sup>صلح</sup> (160)

لوط کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا (160)

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ<sup>ج</sup> (161)

جب انہیں ان کے بھائی لوط نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں (161)

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ<sup>ل</sup> (162)

میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں (162)

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا<sup>ج</sup> (163)

پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو (163)

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝<sup>ط</sup> ۱۶۴

اور میں تم سے اس پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا میری مزدوری تو ۱۶۴  
بس اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝<sup>ل</sup> ۱۶۵

کیا تم دنیا کے لوگوں میں لڑکوں پر گرے پڑتے ہو ۱۶۵

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ۝<sup>۱۶۶</sup>

اور تمہارے رب نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کر دی ہیں انہیں ۱۶۶  
چھوڑ دیتے ہو بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ۝<sup>۱۶۷</sup>

کہنے لگے اے لوط اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو ضرور تو نکال ۱۶۷  
دیا جائے گا

قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ۝<sup>ط</sup> ۱۶۸

کہا میں تو تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں ۱۶۸

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ۝<sup>۱۶۹</sup>

اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس کے وبال سے ۱۶۹  
نجات دے جو وہ کرتے ہیں

فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ۝<sup>ل</sup> ۱۷۰

پھر ہم نے اسے اور اس کے سارے کنبے کو بچا لیا ۱۷۰

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ<sup>ع</sup> ①٧١

مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ گئی تھی ①٧١

ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ<sup>ع</sup> ①٧٢

پھر ہم نے اور سب کو ہلاک کر دیا ①٧٢

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَسَاءً مَطْرُ الْمُؤْمِنِينَ ①٧٣

اور ہم نے ان پر مینہ برسایا پھر ڈرائے ہوؤں پر بُرا مینہ برسا ①٧٣

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً<sup>ط</sup> وَمَا كَانَ أَكْثَرَهُمْ مُّؤْمِنِينَ ①٧٤

البتہ اس میں بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے ①٧٤  
نہیں

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ<sup>ع</sup> ①٧٥

۱۲ اور بیشک تیرا رب زبردست رحم کرنے والا ہے ①٧٥

كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ<sup>ط</sup> ①٧٦

بن والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا ①٧٦

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ<sup>ع</sup> ①٧٧

جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ①٧٧

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ<sup>ل</sup> ①٧٨

میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں ①٧٨

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۞<sup>(179)</sup>

پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو ۞<sup>(179)</sup>

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞<sup>(180)</sup>

اور میں تم سے اس پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا میری مزدوری تو ۞<sup>(180)</sup>  
بس رب العالمین کے ذمہ ہے

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۞<sup>(181)</sup>

پیمانہ پورا دو اور نقصان دینے والے نہ بنو ۞<sup>(181)</sup>

وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۞<sup>(182)</sup>

اور صحیح ترازو سے تولا کرو ۞<sup>(182)</sup>

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞<sup>(183)</sup>

اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور ملک میں فساد ۞<sup>(183)</sup>  
مچاتے نہ پھرو

وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولَىٰ ۞<sup>(184)</sup>

اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلی خلقت کو بنایا ۞<sup>(184)</sup>

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ۞<sup>(185)</sup>

کہنے لگے کہ تم پر تو کسی نے جادو کر دیا ۞<sup>(185)</sup>

وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِينَ ۞<sup>(186)</sup>

اور تو بھی ہم جیسا ایک آدمی ہے اور ہمارے خیال میں تو تو جھوٹا <sup>186</sup>  
ہے

فَأَسْقُطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ <sup>187</sup>

سو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے اگر تو سچا ہے <sup>187</sup>

قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ <sup>188</sup>

کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو <sup>188</sup>

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ <sup>189</sup>

پھر اسے جھٹلایا پھر انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا ہے <sup>189</sup>  
شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً <sup>ط</sup> وَمَا كَانَ أَكْثَرَهُمْ مُّؤْمِنِينَ <sup>190</sup>

البتہ اس میں بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے <sup>190</sup>  
نہیں

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ <sup>ع</sup> <sup>191</sup>

۱۳ اور بے شک تیرا رب زبردست رحم کرنے والا ہے <sup>191</sup>

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ <sup>ط</sup> <sup>192</sup>

اور یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے <sup>192</sup>

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ <sup>ل</sup> <sup>193</sup>

اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے <sup>193</sup>

عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ<sup>١٩٤</sup>

تیرے دل پر تاکہ تو ڈرانے والوں میں سے ہو<sup>١٩٤</sup>

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ<sup>١٩٥</sup>

صاف عربی زبان میں<sup>١٩٥</sup>

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ<sup>١٩٦</sup>

اور البتہ اس کی خبر پہلوں کی کتابوں میں بھی ہے<sup>١٩٦</sup>

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ<sup>١٩٧</sup>

کیا ان کے لیے نشانی کافی نہیں کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء بھی<sup>١٩٧</sup>  
جانتے ہیں

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ<sup>١٩٨</sup>

اور اگر ہم اسے کسی عجمی پر نازل کرتے<sup>١٩٨</sup>

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ<sup>١٩٩</sup>

پھر وہ اسے ان کے سامنے پڑھتا تو بھی ایمان نہ لاتے<sup>١٩٩</sup>

كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ<sup>٢٠٠</sup>

اسی طرح ہم نے اس انکار کو گناہگاروں کے دل میں ڈال رکھا ہے<sup>٢٠٠</sup>

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ<sup>٢٠١</sup>

وہ دردناک عذاب دیکھے بغیر اس پر ایمان نہیں لائیں گے<sup>٢٠١</sup>

فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾

پھر وہ ان پر اچانک آئے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی ﴿٢٠٢﴾

فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

پھر کہیں گے کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے ﴿٢٠٣﴾

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾

کیا ہمارے عذاب کو جلد چاہتے ہیں ﴿٢٠٤﴾

أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾

بہلا دیکھ اگر ہم انہیں چند سال فائدہ اٹھانے دیں ﴿٢٠٥﴾

ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾

پھر ان کے پاس وہ عذاب آئے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں ﴿٢٠٦﴾

مَا آغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَعُونَ ﴿٢٠٧﴾

تو جو انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے کیا ان کے کچھ کام بھی آئے گا ﴿٢٠٧﴾

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾

اور ہم نے ایسی کوئی بستی ہلاک نہیں کی جس کے لیے ڈرانے والے ﴿٢٠٨﴾  
نہ آئے ہوں

ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٠٩﴾

نصیحت دینے کے لیے اور ہم ظالم نہیں تھے ﴿٢٠٩﴾

وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ ۝<sup>210</sup>

اور قرآن کو شیطان لے کر نہیں نازل ہوئے ۝<sup>210</sup>

وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ۝<sup>211</sup>

اور نہ یہ ان کا کام ہے اور نہ وہ اسے کر سکتے ہیں ۝<sup>211</sup>

إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُولُونَ ۝<sup>212</sup>

وہ تو سننے کی جگہ سے بھی دور کر دیے گئے ہیں ۝<sup>212</sup>

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ۝<sup>213</sup>

سو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکار ورنہ تو بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۝<sup>214</sup>

اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈرا ۝<sup>214</sup>

وَإِخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝<sup>215</sup>

اور جو ایمان لانے والے تیرے ساتھ ہیں ان کے لیے اپنا بازو جھکا ۝<sup>215</sup>  
نئے رکھ

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۝<sup>216</sup>

پھر اگر تیری نافرمانی کریں تو کہہ دے میں تمہارے کام سے بیزار ہوں

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝<sup>217</sup>



اور زبردست رحم والے پر بھروسہ کر ﴿٢١٧﴾

الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ۗ ﴿٢١٨﴾

جو تجھے دیکھتا ہے جب تو اٹھتا ہے ﴿٢١٨﴾

وَتَقْلُبَكَ فِي السُّجُودِ ۖ ﴿٢١٩﴾

اور نمازیوں میں تیری نشست و برخاست دیکھتا ہے ﴿٢١٩﴾

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾

بیشک وہ سننے والا جاننے والا ہے ﴿٢٢٠﴾

هَلْ أَنْبِئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنْزَلُ الشَّيْطَانُ ۗ ﴿٢٢١﴾

کیا میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پر اترتے ہیں ﴿٢٢١﴾

تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٍ ۗ ﴿٢٢٢﴾

ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں ﴿٢٢٢﴾

يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ ۗ ﴿٢٢٣﴾

وہ سنی ہوئی باتیں پہنچاتے ہیں اور اکثر ان میں سے جھوٹے ہوتے ہیں ﴿٢٢٣﴾

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۗ ﴿٢٢٤﴾

اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ ہی کرتے ہیں ﴿٢٢٤﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ۗ ﴿٢٢٥﴾

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں ﴿۲۲۵﴾

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿۲۲۶﴾

اور جو وہ کہتے ہیں کرتے نہیں ﴿۲۲۶﴾

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا

ظَلَمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿۲۲۷﴾

مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اللہ کو بہت یاد کیا اور ﴿۲۲۷﴾  
مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا اور ظالموں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ

﴿۱۳﴾ کس کروٹ پر پڑتے ہیں

زکوٰۃ عاتھا۔ ۷	سُوْرَةُ التَّمَلُّ (مکی)	ایٹھا۔ ۹۳
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ		
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے		

طَسَّ تِلْكَ آيَاتِ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿۱﴾

طس یہ آیتیں قرآن کی اور کتاب روشن کی ہیں ﴿۱﴾

هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۲﴾

ایمان داوروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے ﴿۲﴾

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿۳﴾

جو نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں ﴿۳﴾

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيْنًا لَّهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿۴﴾

البتہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال ان کے ④  
لیے اچھے کر دکھائے ہیں پس وہ سرگرداں پھرتے ہیں

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسِرُونَ ⑤

وہی ہیں جنہیں برا عذاب ہونا ہے اور وہ آخرت میں بڑے ہی خسارہ ⑤  
میں ہوں گے

وَأِنَّكَ لَلتَّالِقِ الْقُرْآنِ مِنَ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ⑥

اور تجھے بڑے حکمت والے علم والے کی طرف سے قرآن دیا جا رہا ⑥  
ہے

إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ  
لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ⑦

جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے ⑦  
میں ابھی وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہوں یا کوئی انگارا سلگا  
کر لاتا ہوں تاکہ تم سینکو

فَلَمَّا جَاءَهَا نُورٍ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ  
الْعَالَمِينَ ⑧

پھر جب موسیٰ وہاں آئے تو آواز آئی کہ جو آگ میں اور اس کے پاس ⑧  
ہے وہ با برکت ہے اور اللہ پاک ہے جو تمام جہان کا رب ہے

يُمُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑨

اے موسیٰ وہ میں اللہ ہوں زبردست حکمت والا ⑨

وَأَلْقَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۗ يَمُوسَىٰ لَا تَخَفْ ۗ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ۗ ⑩

اور اپنی لاٹھی ڈال دے پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح چل ⑩  
رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اے موسیٰ ڈرو  
مت کیونکہ میرے حضور میں رسول ڈرا نہیں کرتے

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حَسُنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑪

مگر جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا ہو تو ⑪  
میں بخشنے والا مہربان ہوں

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ۗ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ  
وَقَوْمِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ ⑫

اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال دے وہ سفید بے عیب نکلے گا یہ ⑫  
دونوں ملا کر نونشانیاں فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے کر جا  
کیونکہ وہ بدکار لوگ ہیں

فَلَمَّا جَاءَهُمْ أَيْنُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ⑬

پھر جب ان کے پاس آنکھیں کھولنے والی ہماری نشانیاں آئیں تو ⑬  
کہنے لگے یہ تو صاف جادو ہے

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
عَالِمِ الْمُفْسِدِينَ ۚ ﴿١٤﴾

اور انہوں نے انکا ظلم اور تکبر سے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل  
عاقبتیں کر چکے تھے پھر دیکھ مفسدوں کا انجام کیسا ہوا

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ  
عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾

اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا اور کہنے لگے اللہ کا شکر ہے  
جس نے ہمیں بہت سے ایمان دار بندوں پر فضیلت دی

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ  
إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾

اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا اور کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی  
سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر قسم کے ساز و سامان دیے گئے ہیں بے  
شک یہ صریح فضیلت ہے

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾

اور سلیمان کے پاس اس کے لشکر جن اور انسان اور پرندے جمع  
کیے جاتے پھر انکی جماعتیں بنائی جاتیں

حَتَّىٰ إِذَا اتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا  
يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾

یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان پر پہنچے ایک چیونٹی نے کہا ⑱  
 اے چیونٹیو اپنے گھروں میں گھس جاؤ تمہیں سلیمان اور اس کی فوجیں  
 نہ پیس ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو

فَتَبَسَّ صَاحِبًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ  
 وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

⑲

پھر اس کی بات سے مسکرا کر ہنس پڑا اور کہا اے میرے رب ⑲  
 مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر  
 اور میرے ماں باپ پر کیا اور یہ کہ میں نیک کام کروں جو تو پسند  
 کرے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدُودَ ۗ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ⑳

اور پرندوں کی حاضری لی تو کہا کیا بات ہے جو میں ہڈ ہڈ کو نہیں ⑳  
 دیکھتا کیا وہ غیر حاضر ہے

لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لِيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ㉑

میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا یا وہ میرے پاس ㉑  
 کوئی صاف دلیل بیان کرے

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تَحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ㉒

پھر تھوڑی دیر کے بعد ہڈ ہڈ حاضر ہوا اور کہا کہ میں حضور کے ㉒  
 پاس وہ خبر لایا ہوں جو حضور کو معلوم نہیں اور سب سے آپ کے پاس

ایک یقینی خبر لایا ہوں

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر بادشاہی کرتی ہے اور اسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا بڑا تخت ہے

وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ

أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾

میں نے پایا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال کو انہیں آراستہ کر دکھایا ہے اور انہیں راستہ سے روک دیا ہے سو وہ راہ پر نہیں چلتے

أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ  
وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾

اللہ ہی کو کیوں نہ سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو سب کو جانتا ہے

السجدة  
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾

اللہ ہی ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے  
السجدة

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾

کہا ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے

إِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾

میرا یہ خط لے جا اور ان کی طرف ڈال دے پھر ان کے ہاں سے ②٨  
واپس آ جا پھر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنَّي أَخْتَلِي إِلَيْكِ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴿٢٩﴾

کہنے لگی اے دربار والو میرے پاس ایک معزز خط ڈالا گیا ہے ②٩

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾

وہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور وہ یہ ہے اللہ کے نام سے ③٠  
شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

أَلَّا تَعْلَمُونَ عَلِيٍّ وَأَتُونِي مَسْلَمِينَ ﴿٣١﴾

۱۶ع میرے سامنے تکبر نہ کرو اور میرے پاس مطیع ہو کر چلی آؤ ③١

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾

کہنے لگی اے دربار والو مجھے میرے کام میں مشورہ دو میں کوئی ③٢  
بات تمہارے حاضر ہوئے بغیر طے نہیں کرتی

قَالُوا نَحْنُ أَوْلَا قُوَّةً وَأَوْلُوا بِأَسْ شَدِيدٍ ﴿٣٣﴾ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾

کہنے لگے ہم بڑے طاقتور اور بڑے لڑنے والے ہیں اور کام تیرے ③٣  
اختیار میں ہے سو دیکھ لے جو حکم دینا ہے



قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۗ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾

کہنے لگی بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے خراب کر دیتے ہیں اور وہاں کے سرداروں کو بے عزت کرتے ہیں اور ایسا ہی کریں گے

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنظِرَةٌ لِّمَن يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾

اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کہ ایلچی کیا جواب لے کر آتے ہیں

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا أَتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾

پھر جب سلیمان کے پاس آیا فرمایا کیا تم میری مال سے مدد کرنا چاہتے ہو سو جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے بلکہ تم ہی اپنے تحفہ سے خوش رہو

ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٧﴾

ان کی طرف واپس جاؤ ہم ان پر ایسے لشکر لے کر پہنچیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے اور ہم انہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾

کہا اے دربار والو تم میں کوئی ہے کہ میرے پاس اس کا تخت لے ③۸  
اے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرمانبردار ہو کر آئیں

قَالَ عَفْرِيْتُ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ  
أَمِينٌ ③۹

جنوں میں سے ایک دیو نے کہا میں تمہیں وہ لا دیتا ہوں اس سے ③۹  
پہلے کہ تو اپنی جگہ سے اٹھے اور میں اس کے لیے طاقتور امانت دار  
ہوں

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا  
رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ  
فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ④۰

اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا میں اسے تیری آنکھ ④۰  
جھپکنے سے پہلے لا دیتا ہوں پھر جب اسے اپنے روبرو رکھا دیکھا تو  
کہنے لگا یہ میرے رب کا ایک فضل ہے تاکہ میری آزمائش کرے کیا  
میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور جو شخص شکر کرتا ہے اپنے ہی  
نفع کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بھی  
بے پرواہ عزت والا ہے

قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرُ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ④۱  
کہا اس کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو ہم دیکھیں کیا اسے ④۱  
پتہ لگتا ہے یا انہیں میں ہوتی ہے جنہیں پتہ نہیں لگتا

فَلَمَّا جَاءَتْ قَيْلَ أَهْكَذَا عَرُشُكَ<sup>ط</sup> قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ<sup>ع</sup> وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا  
مُسْلِمِينَ<sup>④۲</sup>

پھر جب آئی کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے کہنے لگی گویا کہ یہ<sup>④۲</sup>  
وہی ہے اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرمانبردار ہو  
چکے ہیں

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ<sup>ط</sup> إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كُفْرِينَ<sup>④۳</sup>  
اور اسے ان چیزوں سے روک دیا جنہیں اللہ کے سوا پوجتی تھی ہے<sup>④۳</sup>  
شک وہ کافروں میں سے تھی

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ<sup>ع</sup> فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً<sup>ع</sup> وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا<sup>ط</sup> قَالَ إِنَّهُ  
صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ<sup>ه</sup> قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي<sup>و</sup> وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ  
عَلَيْهِ السَّلَامُ<sup>ع</sup> رَبِّ الْعَالَمِينَ<sup>④۴</sup>

اسے کہا گیا اس محل میں داخل ہو پھر جب اسے دیکھا خیال کیا کہ<sup>④۴</sup>  
وہ گہرا پانی ہے اور اپنی پنڈلیاں کھولیں کہا یہ تو ایسا محل ہے جس  
میں شیشے جڑے ہوئے ہیں کہنے لگی اے میرے رب میں نے اپنے  
نفس پر ظلم کیا تھا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ کی فرمانبردار ہوئی جو  
سارے جہاں کا رب ہے

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَيْنِ يَخْتَصِمُونَ

اور ہم نے تمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی ④۵  
بندگی کرو پھر وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے

قَالَ يَقَوْمٍ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ  
تُرْحَمُونَ ④۶

کہا اے میری قوم بھلائی سے پہلے برائی کو کیوں جلدی مانگتے ہو ④۶  
اللہ سے گناہ کیوں نہیں بخشواتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ ۗ قَالَ طَيَّرْتُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ④۷  
کہنے لگے ہمیں تو تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے نحوست معلوم ④۷  
ہوئی کہا تمہاری نحوست اللہ کی طرف سے ہے بلکہ تم لوگ آزمائش میں  
ڈالے گئے ہو

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ④۸

اور اس شہر میں نو آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے ④۸  
اور اصلاح نہیں کرتے تھے

قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا  
لَصَادِقُونَ ④۹

کہنے لگے آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ صالح اور اس کے گھر ④۹  
والوں پر شبخوں ماریں پھر اس کے وارث سے کہہ دیں ہم تو اس کے  
کنبہ کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں

وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾

اور انہوں نے ایک داؤ کیا اور ہم نے بھی ایسا داؤ کیا کہ انہیں ﴿٥٠﴾  
خبر بھی نہ ہوئی

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۗ أَنَا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾

پھر دیکھو ان کے داؤ کا کیا انجام ہوا کہ ہم نے انہیں اور ان کی ساری ﴿٥١﴾  
قوم کو ہلاک کر دیا

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾

سو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب سے ویران پڑے ہیں ﴿٥٢﴾  
بے شک اس میں دانشمندوں کے لیے عبرت ہے

وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾

اور ہم نے ایمان اور تقویٰ والوں کو نجات دی ﴿٥٣﴾

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾

اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم کو کہا کیا تم بے حیائی کرتے ہو ﴿٥٤﴾  
حالانکہ تم سمجھ دار ہو

أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾

کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں پر خواہش کر کے آتے ہو بلکہ تم ﴿٥٥﴾  
لوگ جاہل ہو

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ  
يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾

پھر اس کی قوم کا اور کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ یہ کہا ﴿٥٦﴾  
لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ بڑے پاک بنتے  
ہیں

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٥٧﴾

پھر ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے ﴿٥٧﴾  
بچا لیا ہم اس کو پیچھے رہنے والوں میں ٹھہرا چکے تھے

﴿٥٨﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿٥٨﴾

﴿٥٨﴾ اور ہم نے ان پر مینہ برسایا پھر ڈرائے ہوؤں کا مینہ برا تھا ﴿٥٨﴾

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ اللَّهُ خَيْرٌ مَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

﴿٥٩﴾ کہہ دے سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر ﴿٥٩﴾  
سلام ہے بھلا اللہ بہتر ہے یا جنہیں وہ شریک بناتے ہیں